

كِتَاب مَنْظُوم

أَهْرَ فَيُوضُ فَلَ سَفْتِ الْمَحَبَّةِ

سنة ١٤٤٥هـ

وهو

نَعِيمُ التَّسْبِيحِ الدَّائِمِ

”إِلَى النَّبِيِّ أُمَّتِي حَبِي لِكْرَمِي“

سنة ١٤٤٥هـ

للداعي الاجل الفاطمي العلامة النحرير سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين
طول الله عمره الشريف الى يوم الدين

عَامُ خَيْرَاتٍ حَسَنَاتٍ

سنة ١٤٤٥هـ

المقدمة

يا لله من قصيدة فائحة بعطر الحب * افعمت ارجاء دعوة الحق بنشرها
الطيب * صنّفها من مقامه في علمه وادبه وعمله وسياسته واخلاصه واخباره
كالشمس بين الدعاة المطلقين الفاطميين الشموس^{٢٤} * الطالعة في ليلة الستر
لاحياء الارواح والنفوس *

الدَّاعِي لِجَلِّ الْفَاطِمِي سَيِّدِنَا عَلِيٍّ قَدْرُ مُفْضِلِ سَيِّفِ الدِّينِ

طول الله عمره الشريف الى يوم الدين

في عيد الفطر سنة الف واربعائة وخمس واربعين (١٤٤٥) * من هجرة النبي
المصطفى سلام الله عليه وعلى آله الطيبين *

مطلعها المنسجم * خير مبتدأ لمعان ضامنة لمن اوعها بخير مختتم *

أَلِ النَّبِيِّ أُمَّتِي حُبِّي لَكُمْ
أَنْتُمْ أَحَبُّ أَحِبَّتِي حُبِّي لَكُمْ

أَلِ النَّبِيِّ أُمَّتِي حُبِّي لَكُمْ

في كل بيت من هذه القصيدة المباركة يخاطب سيدنا الداعي الاجل الفاطمي طع
أل النبي الطاهرين صع بكلمة "حبي لكم" ❀ فهي لا شك كتاب منظوم يشرح
فلسفة الحب الخالص الصافي عن كل شائبة تصم ❀ ويبين مظاهر الحب الخالص
والود الصميم في كل ناحية من نواحي حياته طع الطيبة ❀ وفي كل جانب من
جوانب علمه وادبه وفكرته وعمله المعجبة ❀

وان كلمة "حبي لكم" الصادرة عن الاخلاص عددها كعدد كلمة الاخلاص
"لا اله الا هو" مائة وعشرة (١١٠) بحساب الجمل ❀ فاحتواء القصيدة المباركة على
مائة وعشرة (١١٠) ابيات دلالة على عدد "علي" الذي اخلاص حبه كل محبيه
نحي وكل عقدة مشكلة عنهم حلل ❀ وان هذه القصيدة الشريفة لجوهرة وقادة
من جواهر الادب الفاطمي ❀ ومائدة مشبعة مروية من موائد العيد النازلة من
السماء لكل طالب من عوائد الفضل الهاشي ❀

وان الجامعة السيفية تعد خدمة نشر هذه القصيدة المباركة مع فخواها سعادة
لها وبراء ❀ وعزا لها وفخرا ❀ وهي شاكرة لولي نعمتها مصنف القصيدة هذه على
مدى العصور ❀ داعية لطول عمره باخلاص النية قائلة "اللهم طول عمره الشريف
في صحة تامة وعافية كاملة وشاملة وسرور ورفاهية الى يوم النشور" ❀
امين ، والحمد لله رب العالمين .

فحوی المقدمة

عجب اقصیٰ چھ جہ محبتہ نا عطر سی مہکی رہیا چھ ، حق نی دعوتہ نا کونا کونا ما اہنی پاک خوشبو پھیلائی گئی چھ ، اہنے وہ مولیٰ یہ تصنیف کیدا چھ کہ جہ پوتانا علم ما ، ادب ما ، سیاستہ ما ، اخلاص انہ اخبات ما ۔ دعاة مطلقین فاطمینہؑ نا درمیان شمس نی مثل چھ ، جہ دعاة مطلقینہؑ خود شمس چھ ، اپ مولیٰ طع ارواح انہ نفوس نے زندہ کروا واسطے اُستر نی رات ما طلوع تھیا چھ ، یہ مولیٰ کون چھ؟ کہ

الدَّاعِيَ لِجَلِّ الْفَاطِمِيِّ سَيِّدِنَا عَلِيِّ قَدْرٍ مُّفَضَّلِ سَيِّفِ الدِّينِ

طول الله عمره الشريف الى يوم الدين

اپ مولیٰ طع یہ عید الفطر سنہ ۱۴۴۵ھ ما اقصیٰ نے تصنیف کیدا چھ ، یہ قصیٰ مبارکۃ نو خیر ابتداء اُ مطلع چھ ، جہ قصیٰ ما اہوی معانی چھ کہ جہ اہنے استیعاب کرنے تو یہ معانی اہنا واسطے خیر انجام نی ضمانتہ لے چھ ، یہ مطلع اُ مثل چھ:

اَلنَّبِيِّ اُمَّتِي حُبِّي لَكُمْ
اَنْتُمْ اَحَبُّ اَحَبَّتِي حُبِّي لَكُمْ

(اے نبی محمد صلح نا شہزاداؤ! اے مارا ائمة طاہرین صع! ماری محبة - آپ سگلا نا واسطے چھے، مارا اِحبة ما زیادة ما زیادة محبوب - آپ سگلا چھو، ماری محبة آپ سگلا نا واسطے چھے .)

ا قصيدة مباركة ني هر بيت ما سيدنا الداعي الاجل الفاطمي طع - اَل النبي ائمة طاہرین صع نے ا مثل ناکلمة سي خطاب کرے چھے کہ "حيي لکم"، یہ قصيدة مباركة بے شک کتاب منظوم چھے جہ محبة نا فلسفة ني شرح کرے چھے، اھوي محبة - جہر عیب لگاؤ نار شائبة سي صاف اے خالص چھے، یہ کتاب منظوم - سيدنا الداعي الاجل الفاطمي طع نا حيوة طيبة نا تمام نواحي ما سي هر ايك ناحية ما، اے آپ نا علم، عمل، فکرة اے عاطفة نا تمام جوانب ما سي هر ايك جانب ما کئی طرح محبة نا مظاهر ظاهر تھائی چھے - یہ بیان کرے چھے .

"حيي لکم" ناکلمة جہ اخلاص سي صادر تھیا چھے - اھنا عدد کلمة الاخلاص "لا الہ الا هو" نا عدد ني مثل - ايسو^{۱۱} دس تھائی چھے، لطف چھے کہ ا قصيدة مباركة ما ايسو^{۱۱} دس بيت چھے، اے ايسو^{۱۱} دس نو عدد "علي" پر دلالة کرے چھے، جہ ني اخلاص سي محبة کروو - اھنا محبة کرنا راؤ نے نجات اے چھے، اے هر گٹھان نے یہ سگلا واسطے کھولي دے چھے . ا قصيدة شريفة ادب فاطمي نا ايك روشن چمکنار جوهر چھے، اے عيد نا موائد ما سي ايك مائدة چھے، جہ مائدة - هر وہ شخص نے سير اے سیراب کرے چھے جہ فضل هاشمي نا عوائد نے طلب کرے چھے .

الجامعة السيفية ا قصيدة مباركة نے اھنا فحوى ساتھ نشر کرواني خدمة نے سعادة، بر، عزة اے فخر گردانے چھے، الجامعة السيفية اھنا ولي النعمة - جہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

اَقصيدة مباركة نے تصنیف کرنا چھے ، اهنو زمان نا دراز لگ شکر گزار چھے ،
انے اخلاص النية سي اهنی طول العمر واسطے دعاء کرنا چھے ، انے دعاء ما ایم
عرض کرے چھے ، کہ "اے پروردگار! تُوید مولیٰ نی عمر شریف نے صحتة تامة ، عافية
کاملتة شاملتة ، خوشی انے خوش حالی ما - قیامة نادن لگ دراز کر جے " .
امین ، والحمد لله رب العالمین .



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلنَّبِيِّ اُمَّتِي حُبِّي لَكُمْ
اَنْتُمْ اَحَبُّ اِحْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

اے نبی محمد صلے نا شہزاداؤ! اے مارا ائمة طاهرین ص ۷۰! ماری محبة - آپ سگلا نا واسطے چھے، مارا اِحبة ما زیادة ما زیادة محبوب - آپ سگلا چھو، ماری محبة آپ سگلا نا واسطے چھے . (اِحبة: جد سگلا نی محبة کروا ما اوے)

اَللّٰوَصِيِّ حَبِیْبِ طَهْ الْمُرْتَضٰی
وَاللّٰهُ اَعْظَمُ نِعْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

اے رسول اللہ صلے نا وصی اے حبیب مولانا علی المرتضیٰ ص ۷۰! نا شہزاداؤ! خدا نا قسم! ماری نعمتو نا درمیان مھوٹا ما مھوٹی نعمت - ماری محبة چھے آپ سگلا نا واسطے .

یا اَل فَاطِمَہٗ اُمُّ وَاَلِیْہَا الرِّضِیُّ
لَا شَکَّ رَوْضَۃٌ جَنَّتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

اے مولانا فاطمہ صعنا شہزادو! کہ جہ "اُمُّ اَیْبَہَا" چھ، بے شک ماری جنتہ نو
کیارو۔ ماری محبتہ چھ اپ سگلا نا واسطہ .

یا عِترَۃَ الحُسَیْنِیْنَ مِنْکِیْ اَلِیُّ
رَقِیًّا مِنْکِیْ ذُرْوِیِّ حُبِّیْ لَکُمْ

اے مولانا الامام الحسن صعنا مولانا الامام الحسین صعنا عترۃ طاهرۃ! جہ بیوے
امام۔ رسول اللہ صلعنا بلند کاندھا پرسوار تھیا، اپ سگلا یر بیوے امامنا شہزادو
چھو، تو مارا واسطہ بلند ما بلند جگہ۔ ماری محبتہ چھ اپ سگلا نا واسطہ .

اَبْنَاءَ طُہْرِ خَمْسَۃٍ حُبِّا لَکُمْ
اَبِّیْ فَرَا حِمُّ عِبْرَتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

اے خمسۃ اطہار صعنا پنجتن پاکنا شہزادو! اپ سگلا نی محبتہ ما میں روؤں
چھوں، پچھی مارا انسو نے رحمۃ کرنار۔ ماری محبتہ چھ اپ سگلا نا واسطہ .

اِنِّي اُحِبُّكُمْ بَنِي طَه السُّرَى
فَرَضِي وَاوَكَّدُ سُنَّتِي حُبِّي لَكُمْ

تحقیقاً میں آپ سگلا نی محبت کروں چھوں۔ اے طہ رسول اللہ صلے نا شہزاداؤ! جہ سردارو چھ، ماری فریضہ اے سُنَّہ مؤکدہ۔ زیادہ ما زیادہ تَأْکِید وتی سُنَّہ۔ ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطہ۔

اِنِّي اُحِبُّكُمْ بَنِي عَيْنِ اَمِيءٍ
وَالنَّحْلِ صِفْوَةٌ نَحَلْتِي حُبِّي لَكُمْ

تحقیقاً میں آپ سگلا نی محبت کروں چھوں، اے امیر المؤمنین۔ امیر النحل مولانا علی صلے نا شہزاداؤ! مارا عقیدہ نو خلاصہ۔ ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطہ۔

اِنِّي اُحِبُّكُمْ بَنِي الزَّهْرَاءِ فَا
طِمَّةٍ فَنُورٌ مَحَجَّتِي حُبِّي لَكُمْ

تحقیقاً میں آپ سگلا نی محبت کروں چھوں۔ اے مولانا فاطمہ صلے نا شہزاداؤ! جہ فاطمہ صلے۔ زہراء چھ، روشن چھ، پچی مارا راستہ نو نور۔ ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطہ۔

اِنِّي اَحْبَبُكُمْ بَنِي الْحُسَيْنِ مَحَبَّةً
بِوُجْهِ اَطْرَفِ تَحْفَتِي حُبِّي لَكُمْ

تحقیقاً میں آپ سگلا نی محبة کروں چھوں، اے مولانا الامام الحسن صع اے
مولانا الامام الحسين صع ناشہزاداً! جریوے امام مارا محبوب چھ۔ مارا واسطے نادر
مانادر تحفة۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

اِنِّي اَحْبَبُكُمْ اَقْوَلُ مُسَلْسَلًا
وَاللّٰهُ اَطْيَبُ نَعْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

تحقیقاً میں آپ سگلا نی محبة کروں چھوں، ا مثل میں مسلسل کہوں چھوں، خلا
نا قسم! مارا نعمات ما زیادة ما زیادة پاک نعمة۔ ماروا قول چھ کہ "حُبِّي لَكُمْ"۔

وَاللّٰهُ دِيْنِي حُبُّكُمْ فَاَحْبَبُكُمْ
فِي كُلِّ حِصَّةٍ ذَرَّةً حُبِّي لَكُمْ

خلا نا قسم! مارو دین آپ سگلا نی محبة چھ، تو پچی میں آپ سگلا نی محبة کروں
چھوں، مارا ہر ایک ذرۃ نا ہر ایک حصہ ما۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔
(مولانا الامام محمد الباقر صع ید تین وار فرمایو چھ کہ "وَهَلِ الدِّينُ اِلَّا الْحُبُّ")

وَأَحِبُّكُمْ وَأُحِبُّكُمْ وَأُحِبُّكُمْ
وَاللَّهُ أَكْمَلُ صَحَّتِي حُبِّي لَكُمْ

میں آپ سگلا نی محبت کروں چھوں، میں آپ سگلا نی محبت کروں چھوں، میں آپ سگلا نی محبت کروں چھوں، خدا نا قسم! ماری پورے پوری صحتہ - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

قَسَمًا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ أُحِبُّكُمْ
حُبًّا فَمَصْدَرٌ فَرِحْتِي حُبِّي لَكُمْ

رب العالمین نا قسم! میں آپ سگلا نی گھنی محبت کروں چھوں، چھی ماری خوشی نو مصدر (اصل) - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

إِنِّي فُطِرْتُ عَلَىٰ مَحَبَّتِكُمْ فَلَا
تَبْدِيلَ فِيهَا، فِطْرَتِي حُبِّي لَكُمْ

میں آپ سگلا نی محبت پر پیدا تھیو چھوں، اہما کوئی تبدیل نہیں اوے، ماری فطرتہ - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے . (فطرتہ: پیدائش نی حالتہ)

مَنْ مِثْلُ جَدِّكُمْ الرَّسُولِ لِشَارِعِ الْ
شَّرْعِ الشَّرِيفِ فَشَرُّعَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۵
آپ سگلا نا جد رسول الله صلح ني مثل کون چھ؟ جد ید شرف ونتي شريعة
ني رچنا کیدی، پچھی مارو راستہ۔ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

مَنْ مِثْلُ وَالِدِكُمْ عَلِيٍّ صَاحِبِ الْ
خَيْرِ الْكَثِيرِ فَحِكْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۶
آپ سگلا نا والد مولانا علي صلح ني مثل کون چھ؟ جد خير کثير نا صاحب چھ، انے
حکمة خير کثير چھ، پچھی ماري حکمة۔ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔
(الله تعالى قرآن مجيد ما فرماوے چھ کہ "وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا")

مَنْ مِثْلُ فَاطِمَةَ امِّكُمْ سُبْحَانَهَا
تُبْحِي الْغَرِيقَ فَسُبْحَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۷
آپ سگلا نا ماں صاحبة مولانا فاطمة صلح ني مثل کون چھ؟ جد ني تسبيح -
تسبيح فاطمة غرق تھانار نے تسبيح کراوي نے۔ تيراوي نے نجات عطاء کرے چھ،
پچھی ماري تسبيح۔ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

مَنْ مَثَلُ عَمِّكُمْ الْمُعْتَمِّ بِالْعُلَى
حَسَنِ الصَّلَاحِ فِعْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۸

آپ سگلا نا کاکاجي صاحب مولانا الامام الحسن ع ني مثل کون چھ؟ جد امام يہ بلندي ني پاگھري پھني هوي چھ، آپ يہ گھني بہتر شاکلة سي صلح کيدي، پچھي ماري پاگھري۔ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

مَنْ مَثَلُ وَالِدِكُمْ حُسَيْنٍ حَافِظِ الْاَلِ
دِينِ الْحَنِيفِ فَحُنَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۹

آپ سگلا نا باواجي صاحب مولانا الامام الحسين ع ني مثل کون چھ؟ جد امام دين حنيف ني حفاظة نا کرنا چھ، پچھي ماري ڈھال۔ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

مَنْ مَثَلُ طَيِّبِكُمْ بِدَا كِسَاءِهِ
نُورًا مَنُورًا كِسْوَتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۰

آپ سگلا نا طيب۔ مولانا الامام الطيب ع ني مثل کون چھ؟ کہ جد امام پوتاني نوراني کساء سي نور بني نے ظاهر تھيا، مارا پوشاک نے روشن کرنا۔ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

مَنْ مِثْلُ قَائِمِكُمْ يَكْرِمُنَا بِلِقَائِهِ
يَا هُ فَضَا مِنْ لِقَائِي حُبِّي لَكُمْ

۲۱
اپ سگلا نا قائم - قائم علی ذکرہ السلام نی مثل کون چھ؟ کہ جہ ہمنے پوتانا زمرہ ما پہنچاوی نے کرامۃ بخشنار چھ، پچھی اپ سی ماری ملاقات نی ضمانۃ لینار - ماری محبۃ چھ اپ سگلا نا واسطے .

مَنْ مِثْلُ مَنْ سَدَّ وَاَمْسَدَ كُمْ مِنْ اِل
دَاعِيْنَ بِمَهْجَةِ سُدِّي حُبِّي لَكُمْ

۲۲
اپ سگلا نا دعاء مطلقین^{۲۷} نی مثل کون چھ؟ جہ سگلا اپ نا قائم مقام چھ، اپ نی نیابتہ نی کرسی پر بیٹھا چھ، ماری سُدّہ نی بہجہ - ماری محبۃ چھ اپ سگلا نا واسطے .
(سُدّہ: رُتَبہ، منصب لے تخت)

فِي رِبْوَةِ الْاِطْلَاقِ هُمْ وَلَهُمْ قَرَا
رُ مَعَ مَعِيْنَ رَبُوْتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۳
یہ سگلا دعاء کرام^{۲۸} اطلاق نا رُتَبہ نی رِبْوَة (ٹیکری) پر چھ، بلندی پر چھ، یہ سگلا نو سلسلہ جہ مثل مَعِيْنَ - زمین نا اوپر پانی جاری رہے چھ - یہ مثل قرار نا ساتھ جاری رہنار چھ، ماری رِبْوَة جہ ما قرار لے مَعِيْنَ چھ - یہ ماری محبۃ چھ اپ سگلا نا واسطے .
(اللہ سبحانہ قرآن مجید ما فرماوے چھ "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ")

مَنْ مِثْلُ سَيْفِكُمْ لَهُ فِي ضِدِّكُمْ
بَأْسٌ فِشْدَةٌ سَطُورِي حُبِّي لَكُمْ

۲۴

آپ سگلا نا داعي - سيدنا طاھر سيف الدين رض ني مثل کون چھ؟ جد مولی یر آپ سگلا نا دشمنو پر سخت حملة کري نے یر دشمنو نے ختم کيدا، پچھي دشمنو پر مارو سخت حملة - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

مَنْ مِثْلُ بُرْهَانَ الْهُدَى فِي صِدْقِ دَعْوَةٍ
وَتِهِ فَأَصْدَقُ دَعْوَتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۵

آپ سگلا نا داعي - سيدنا محمد برهان الدين رض ني مثل کون چھ؟ جد مولی یر سچائي سي دعوة کيدي، پچھي مارا واسطے سچا ما سچي دعوة - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

يَا رَحْمَ جَدِّكُمْ النَّبِيِّ بِرَحْمَةٍ
وَسِعَ الْاَنَامَ فَرَحْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۶

عجب آپ سگلا نا جد محمد النبي صلح ني رحمة ني شان چھ، یر رحمة سي آپ تمام عالم نے واسع تھيا، پچھي ماري رحمة (خير انعمه) - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

محمودُ ذِكْرِ اللهِ اَوْضَحَ فَضْلَهُ رَبُّ الْاِنَامِ فَمِدْحَتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۷

ذکر اللہ (قرآن مجید) ما رسول اللہ صلے نا وکھان کروا ما ایا چھ، رب الانام - اللہ تعالیٰ یہ اہما
اپ نا فضل نے واضح کیدو چھ، تو پچی ماری اپ سگلا نی مدح کروو - ماری محبت چھ اپ
سگلا نا واسطے، یج مثل اپ سگلا نی محبت نا سبب مارا وکھان تھائی چھ .

بِكُمْ اَعْتَلَى قَوْلُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عِنْدَ احْتِضَارِ اُمَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۸

اپ سگلا نا سبب نبی محمد صلے نو قول بلند رہیو، جد قول نے رسول اللہ صلے یہ وفات نا
وقت ما فرمایو کہ "اُمّتی اُمّتی"، ماری اُمّة! ماری اُمّة! گویا اپ ایم فرمایو رہیا چھ کہ
اے ماری اُمّة! تمارا سگلا واسطے ماری محبت چھ .

يَا قِسْطَ عَدْلِ اَبِيكُمْ وَالْمَوْلَى الْاَبِي اَلْ حَسَنِينِ فَاتِحِ عُقْدَتِي حُبِّي لَكُمْ

۲۹

عجب اپ سگلا نا والد مولانا علی صلے نا عدل ما قسطنی شان چھ، جد امیر المؤمنین -
مولانا الامام الحسن صلے نے مولانا الامام الحسين صلے نا باوا جی صاحب چھ، ماری مشکلو نی
گانٹھ نے کھولنار - ماری محبت چھ اپ سگلا نا واسطے . (قسطن: میزان، عدل ناساتھ احسان کروو)

مَوْلُودُ بَيْتِ اللّٰهِ بِابِ الْعِلْمِ كَعُ
بَةِ عَارِفِيْنَ فَقَبِلْتِي حُبِّي لَكُمْ

مولانا علي صع بيت الله نا مولود چھے ، علم نا دروازہ چھے ، معرفتہ کرنا راؤ نا
کعبتہ چھے ، تو پچھی مارا قبلتہ - ماری محبتہ چھے اپ سگلا نا واسطہ .

وَإِذَا أَنَادِي "يَا عَلِيُّ" أَفُونُ مِنْهُ
تَصِرُ فِعْلَةً نُّصْرِي حُبِّي لَكُمْ

جد وقت میں "یا علی" نی نداء بلند کروں چھوں - تو میں غالب تھاتا ہوا جیتی
جاؤں چھوں ، کیم کہ منے یاری ملوانو سبب - ماری محبتہ چھے اپ سگلا نا واسطہ .

يَا قَدْرًا مِّمَّكُمْ الْبَتُولِ دُعَاؤُهَا
يَمْحُو الذُّنُوبَ فَدَعُوْتِي حُبِّي لَكُمْ

عجب اپ سگلا نا مان صاحبہ مولاتنا فاطمہ البتول صع نی قدر چھے ، اپ لیلۃ القدر
نا ماثولتہ چھے ، اپ نی دعاء گناہونے مٹاوی دے چھے ، پچھی ماری دعاء - ماری محبتہ
چھے اپ سگلا نا واسطہ .

هِيَ حُرْمَةٌ اِسْلَامٍ وَّ اِيْمَانٍ وَّ اَلْ
خُلُقِ الْعَظِيْمِ فَحُرْمَتِيْ حُبِّيْ لَكُمْ

مولاتنا فاطمة ص ع نا سبب اسلام، ايمان انے خُلُقِ عَظِيْمِ نِي حُرْمَةٌ باقِي چھ،
تو پچھي ماري حُرْمَةٌ - ماري محبة چھ اپ سگلا نا واسطے . (حُرْمَةٌ: عَزَّة)

يَا حُسْنَ عَمَلِكُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ اَحَدُ
يَا الْخُلُقِ اَحْسَنَ خَصْلَتِيْ حُبِّيْ لَكُمْ

عجب اپ سگلا نا کا کاجي صاحب مولانا الامام الحسن ص ع نو حُسْنِ چھ، جہ امام يہ
بہتر اخلاق سي عالم نے زندہ کيدا، ماري بہتر ما بہتر خصلتہ - ماري محبة چھ اپ
سگلا نا واسطے .

حَسَنُ قَتِيلِ السَّمِّ بِشَرِّ كِبْدِهِ
بِفِدَى الصَّحَابِ فِرْقَتِيْ حُبِّيْ لَكُمْ

مولانا الامام الحسن ص ع زهر سي شہيد تھيا، اپ نا کليجا نا بہتير ^{۷۲} تکرار يہ
سيد الشہداء مولانا الامام الحسين ص ع پر فداء تھانار اصحاب ني بشارتہ ديدي، تو پچھي
قسم قسم نا زهر سي ماري رُقِيَّة (تعويذ) - ماري محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

مَدَدِي الْحُسَيْنِ ابُو كَرْدِي الْحُسَيْدِ
 مِنْ رَجَائِي فِي شِدَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۳۶

عجب ماري مدد آپ نا باواجي صاحب مولانا الامام الحسين ص ع چھ ، عجب ماري مدد حسين چھ ، مارا سخت حالات ما ماري اُميد - جہ ماري مشکل نے سہل کرنے چھ - یہ ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .
 (امام حسين ص ع یہ عاشوراء نا دن دعاء کرتا ہوا فرمایو "اللَّهُمَّ أَنْتَ ثَقَيْتَ فِي كُلِّ كَرْبٍ وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ . . .")

قُوِّ ضَعِيفًا جَنَاحَ فِطْرٍ مَسْحَهُ اَل
 شَائِي فَمُحِي رِمَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۳۷

فطرس فرشته ني ضعيف پانکھ نے مولانا الامام الحسين ص ع ني شفاء اپنار مسح یہ قوت بخشى دیدي، تو پچھی مارا سٹریلا ہڈاؤ نے زندہ کرنار - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

اَدَّى دِيُونَ الْاَوَّلِيْنَ وَمَنْ اَتُوا
 فِي الْاٰخِرِيْنَ فَعَصْرَتِي حُبِّي لَكُمْ

۳۸

مولانا الامام الحسين ص ع یہ - اولين نے آخرين نا ديون نے اداء كيدا ، تو پچھی مارو سہارو ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

هُوَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ اَنْتُمْ شَاهِدُوْ
نَ عَلَيْهِ شَاهِدُ فِدْيَتِيْ حُبِّيْ لَكُمْ

مولانا الامام الحسين ص ع سيد الشهداء چھ ، يه وات پر اپ سگلا شاہد چھو ،
اپ سگلا پر مارا فداء تھاواني شہادۃ - ماري محبۃ چھ اپ سگلا نا واسطے .

قَتَلَتْهُ عَطْشَانًا اَيَادِي الظَّالِمِيْنَ
نَ عَلَيْهِ اَيَةُ حُرْقَتِيْ حُبِّيْ لَكُمْ

مولانا الامام الحسين ص ع نے پياس ني حالة ما ظالمين نا ہاتھو يہ قتل کيد ، يہ
مصيبۃ پر مارا جلن ني نشاني - ماري محبۃ چھ اپ سگلا نا واسطے .

اِهَّا وَوَاهَا صَبْرُهُ عِنْدَ الشَّدَا
يُدْجَلُ رَابِطُ مُمَجَّتِيْ حُبِّيْ لَكُمْ

مولانا الامام الحسين ص ع يہ سخت مصيبتو پر جر صبر کيدو - يہ گھنو جليل چھ ، يہ مصيبتو پر ميں اوہ!
کہوں چھوں ، لے يہ مثل ني مصيبتو ما اپ نا صبر ني شان پر ميں واہ! کہوں چھوں ، يہ امام حسين ص ع
نا اپ سگلا شہزاد او چھو - تو ماري جيو ذات نے مضبوط کرنار - ماري محبۃ چھ اپ سگلا نا واسطے .

وَالِى الْبُكَاءِ عَلَيْهِ يُنْهَضُ مُبْجَتِي
فِي لَيْلَتِي مَعَ غُدُوْتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۲

مولانا الامام الحسين صء پر بکاء کروا واسطے ماري جيو ذات نے فجرانے سانج
ما جوش دلاؤنار۔ ماري محبة چھے اپ سگلا نا واسطے .

اِنِّي اُنَادِي " يَا حُسَيْنُ يَا حَسِيْدُ
مِنْ لَدِي نِدَائِي قُوْتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۳

میں یا حسین! یا حسین! ني نداء بلند کروں چھوں، ا مثل نداء کروا واسطے
منه قوۃ بخشنار۔ ماري محبة چھے اپ سگلا نا واسطے .

اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ لَيْسَ لِي فِي الدِّينِ وَالِ
دُنْيَا سِوَاكُمْ عُمْدَتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۴

اپ سگلاج۔ اپ سگلاج مارا سہارا چھو، دين انے دنيا ما اپ ناسوی کوئی
مارا سہارا نتھی، مارو سہارو۔ ماري محبة چھے اپ سگلا نا واسطے .

اَنْتُمْ رِيَا حَيْنُ النَّبِيِّ مُطَيَّبٌ
لَا غَرْوَ تَرْبَةَ رَوْضَتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۵

آپ سگلا رسول الله صلح نا ریا حین - خوشبو چھو، بلا شک ماری قبر نا
کیارا نی مٹی نے مہکاؤ نار - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

اَنْتُمْ بَنُو السَّبِطِ الْقَتِيلِ بِكْرَبَلَا
فَعَلَيْهِ يُظْهِرُ لَهَا فِتْي حُبِّي لَكُمْ

۴۶

آپ سگلا رسول الله صلح نا نواسہ مولانا الامام الحسين صع نا شہزاد او چھو، جد کربلاء
ما شہید تھیا، یر حسین پر مارا پستوا نے ظاہر کرنا - ماری محبت چھ آپ سگلا
نا واسطے .

اَنْتُمْ مَلَاذُ اُمَّةٍ مُسْتَوْدَعِي
نَضِي فَكَاشِفُ كُرْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۷

اُمّة مستودعین ۲۴ جد نے آپ سگلا یر خدمت سونپی تھی - اہنا آپ سگلا سہارا
چھو، تو پچھی مارا ہم غم نے دور کرنا - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

اَنْتُمْ غِيُوْتُ الْجُدْبِ قَطْرَةٌ عَلِمَكُمْ
تَشْفِي فَنَاقِعُ غُلَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۸

اُپ سگلا دکال نا وقت ما بارش چھو، اُپ سگلا نا علم نو ایک قطرة شفاء اپنار
چھ، تو پچی ماری پیاس نے بجاؤنار۔ ماری محبة چھ اُپ سگلا نا واسطے .

وَسُوْرُنْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ جَدِّتُ
فِي الْخَافِقَيْنِ فَجَدَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۴۹

مشرق لے مغرب ما اُپ سگلا نی شانات هر دن ما نوا نوا مظاهر ما ظاهر تھائی
چھ، تو ماری هر چیز ما جدّة۔ ماری محبة چھ اُپ سگلا نا واسطے .
(جدّة: ندرے لے میزے . الله سبحانه قرآن مجید ما فرماوے چھ کہ "كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ")

اَلْفَاطِمِيُوْنَ السُّرَى اَشْبَاحُكُمْ
نُوْرًا لِلهِ فَصِبْغَتِي حُبِّي لَكُمْ

۵۰

اے ائمة فاطمیین ص! جد سردارو چھ، اُپ سگلا نا اجسام طاہرہ خدا نا نور چھ،
پچی مارو صبغة (رنگ)۔ ماری محبة چھ اُپ سگلا نا واسطے .
(اُبت ما حقیقہ نا اسرار چھ)

یَا طِیْبُوْنَ هِیَا کِلَّا تَبْدِی الْمَعَا
جَزَا لَذْکَاءِ فَقْدُرْتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

اے پاک ہیاکل نا صاحبو! جہ ہیاکل سورج نی مثل معجزاؤ بتاوے چھ،
تو پچھی ماری قُدرة (طاقت) - ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

قُرْآنَ ذِکْرِ اللّٰهِ اَتْلُوْا ذِکْرَکُمْ
کَالذِّکْرِ زَیْنَةَ لَهَا جَتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

اے ائمة طاهرین ص! اے خدا نی ذکر - قرآن مجید نا قُرْآن! میں قرآن مجید نی تلاوة
نی مثل اپ سگلا نی ذکر نی تلاوة کروں چھوں، ماری زبان نی زینة - ماری محبة
چھ اپ سگلا نا واسطے . (قُرْآن: ساتھیو)

اَنَا ذَاکِرُ الْاَلَاءِ کُمْ فِیْ کُلِّ حَیْ
بِنِ فَادْکُرُوْنِیْ ذِکْرْتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

میں ہمیشہ اپ سگلا نی نعمتو نی ذکر کروں چھوں، پچھی اپ سگلا منے یاد کریئے،
مارو ذکر کروو - ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

(اللہ سبحانہ قرآن مجید ما فرماوے چھ کہ "فَاذْکُرُوْنِیْ اَذْکُرْکُمْ")

وَعَلَى مَبَارِكِ بَابِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ
مِ بِالتَّلَاوَةِ خَتْمِي حَبِي لَكُمْ

هر دن ما آپ نا مبارڪ دروازہ پر مارو قرآن مجيد ني تلاوة ڪرو،
ختمُ القرآن ڪرو۔ ماري محبة ڇهه آپ سگلا نا واسطه .

مَرْضَاتِكُمْ مَرْضَاةُ خَالِقِنَا اِح
بِئَاءِ اِلٰهٍ فَبِعَيْتِي حَبِي لَكُمْ

آپ سگلا ني خوشي - همارا خالق ني خوشي ڇهه، اے خدا نا آجباء! (جہ سگلا
خدا نے محبة ڪرے ڇهه اے جہ سگلا نے خدا محبة ڪرے ڇهه) پڇي ماري اميد -
ماري محبة ڇهه آپ سگلا نا واسطه .

اَيْدِيكُمْ تَسْقِي الْمَوَالِي شُرْبَةً
كَالشَّهْدِ وَثَقِي عُرْوَتِي حَبِي لَكُمْ

آپ سگلا نا هاتھو آپ نا غلامونے اھو جام پلاوے ڇهه کہ جہ مٹھاس ما شھد ني مثل ڇهه، پڇي مارو
عُرْوَةِ وَثَقِي - ماري محبة ڇهه آپ سگلا نا واسطه . (عروة وثقی: کوزہ نو مضبوط هاتھو، مضبوط عقيدة)
(امير المؤمنین مولانا علي بن ابي طالب ؓ يہ فرمايو ڇهه "اَسْقِيَنَّكَ مِنْ شُرْبَةٍ عَلَيَّ ظِلًّا * تَخَالَهَا فِي الْحَلَاوَةِ الْعَسَلًا")

أَطْوَادُ عِزِّكُمْ رَسَتْ بَيْنَ الْوَرَى
لَيْسَتْ تَزُولُ فِعْزَتِي حُبِّي لَكُمْ

۵۷
آپ سگلا نی عزت نا پہاڑو خَلَق نا درمیان گھنا کھونچائلا چھ، یہ کوئی وقت
ڈگمگائی نہیں جائی، پچی ماری عزت - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

وَأَنَا عَلَى مَحْضِ الْيَقِينِ بِأَنَّكُمْ
فِي فِي شِدَائِدِ مَحْنَتِي حُبِّي لَكُمْ

۵۸
میں خالص یقین پر چھوں، کہ سخت محنتو ما مارو سہارو - ماری محبت چھ
آپ سگلا نا واسطے .

لَيْسَتْ كَثْرَةُ دَوْلَتِي مِنْ ثَرْوَةٍ
رَبْحًا فَثَرْوَةُ دَوْلَتِي حُبِّي لَكُمْ

۵۹
ماری دولت نا مال نی مثل کوئی فائدہ مند مال نتھی، پچی ماری دولت نو
مال - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

شَرْقًا وَغَرْبًا فِي الشَّمَالِ وَفِي الْجَنُوبِ
بِأَحَبِّ بُقْعَةٍ بَلَدِي حُبِّي لَكُمْ

مشرق ما انے مغرب ما ، شمال ما انے جنوب ما - مارا شہر ما زیادہ ما زیادہ
محبوب جگہ - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

فِي لَيْلٍ سَتَرَاذُبُلَيْتُ بِفُرْقَةٍ
جَسْمًا فَرُوحًا وَصَلَّتِي حُبِّي لَكُمْ

ستر نی رات ما جد وقت آپ سگلا سی جسمانی فراقی نو امتحان تھیو ، تہ وقت آپ
سگلا سی ماری روحانی صلہ - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

وَإِذَا خَلَوْتُ لَدَى الظَّلَامِ مُبْتَلًا
فَكَرَامَتِي فِي خَلَوْتِي حُبِّي لَكُمْ

جد وقت رات نا اندھارا ما میں لوگو سی الگ تھی نے خلوة کروں چھوں ، تو ماری
خلوة ما ماری کرامت - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

(مولانا علی صاع مناجاة ما فرماوے چھ کہ "إِذَا خَلَا فِي الظَّلَامِ مُبْتَلًا ۞ أَكْرَمَهُ اللهُ ثُمَّ أَذْنَاهُ")

لَمْ اَخْلُقْ قَطُّ مِنْ الْاِنْبِیِّسِ وَکَيْفَ اَخَذُ
لِوَمِنُهُ مُؤْنِسٌ وَحُشْتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

کوئی اهو وقت تھی کہ جب ما منے کوئی انسا اپنا شخص نہ ہوئی، انے میں انسا
اپنا شخص سی کیم خالی رھوں؟ دران حال کہ ماری وحشا ما منے انسا اپنا۔
ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

النَّاسُ اِذْ قَصَدُوا مَقاصِدَهُمْ فِیْهِ
ةُ حَجَّتِیْ مَعَ عُمَرِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

لوگو جب وقت یہ سگلا نا کامو ما الگ ارادہ رکھے چھ، تو مارا عمرہ نا ساتھ ماری حج ما ماری نية
انے مارو مقصد۔ ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے . (یر محبة نا سبب حج انے عمرہ قبول چھ)
(رسول الله صلے فرماوے چھ کہ "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ
هَاجْرَتُهُ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا اَوْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا فَهَاجَرَتْهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ")

سِيْمَاءُ تَأْتِيْرًا لِّلسُّجُوْدِ لِنُوْرِكُمْ
فَخَرِيْ فَعْرَةَ جَبْهَتِيْ حُبِّیْ لَکُمْ

اپ سگلا نو نور۔ جب خدا نو نور چھ۔ اہنا واسطے میں سجداؤ بجائوں چھوں، انے مارا
چہرہ پر یہ سجود نو اثر ظاہر تھاوو مارو فخر چھ، تو ماری پیدشانی نو یہ نور۔ ماری
محبة چھ اپ سگلا نا واسطے . (الله سبحانه قرآن مجید ما فرماوے چھ کہ "سِيْمَاءُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ")

وَإِذَا يُكَاثِرُ بِالْجُمُوعِ مُكَاثِرٌ
فَلَدَى التَّكَاثُرِ كَثْرَتِي حُبِّي لَكُمْ

۶۶

جب وقت کوئی فخر کھانار۔ ایم فخر کھائی کہ اہنا نزدیک اتنی اتنی نعمت چھ، تو میں
سوں چیز سی گھنو فخر کھاؤں چھوں؟ کہ آپ سگلا نا واسطے ماری محبتہ فی کثرتہ سی۔

إِنَّ الْمُفْضَلَ عَبْدُكُمْ يَا سَادَتِي
فِي كُلِّ أَمْرٍ قُدُوتِي حُبِّي لَكُمْ

۶۷

تحقیقاً مفضل آپ سگلا نو غلام چھ۔ اے مارا سردارو! ہر امر ما ماری
قُدوتہ۔ ماری محبتہ چھ آپ سگلا نا واسطے۔ (قُدوتہ: جب فی اقتداء کرو ما اوے)

أَفْدِيكُمْ دَأْبًا وَمَالِي مُكْنَتُهُ
لَكِنَّ أَوْسَعَ مُكْنَتِي حُبِّي لَكُمْ

۶۸

میں ہمیشہ آپ سگلا پر فداء تھوں چھوں، حالانکہ ماری کوئی استطاعتہ نتھی کہ
میں فداء تھوں، مگر ماری زیادہ ما زیادہ وسیع مُکنتہ جب نا سی میں فداء تھوں
چھوں۔ یہ ماری محبتہ چھ آپ سگلا نا واسطے۔ (مُکنتہ: طاقتہ، قدرہ اے قوتہ)

وَحَيَوَةٌ عَبْدِكُمْ بِحُبِّكُمْ تَطِيُّ
بُلَانًا اَصْدَقَ صُحْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

اپ سگلا نا غلام ني زندگي - اپ سگلا ني محبة نا سبب پاك چھ، کيم که
مارا واسطے سچا ماسچي صُحْبَة - ماري محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

وَإِذَا سُئِلْتُ عَنِ النِّعَمِ نَظَرْتُ نَحْوُ
وَكُفْرًا وَاجْهَهُ نَضْرَتِي حُبِّي لَكُمْ

جہ وقت منہ نعيم (نعمة) نو سوال تھاسے - تو میں اپ سگلا ني طرف نظر کريس،
کيم کہ ماري تازگي نو سبب - ماري محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .
(اللہ سبحانہ قرآن مجید ما فرماوے چھ کہ "ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النِّعَمِ" لِي "وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ")

وَإِذَا سُئِلْتُ عَنِ الْوَلَاءِ فَحُبِّكُمْ
أَظْهَرْتُ أَبْلَغُ مَجَّتِي حُبِّي لَكُمْ

جہ وقت منہ ولایة نو سوال تھاسے - تو میں اپ سگلا ني محبة نے ظاہر کريس،
مارا نزدیک مھوٹا مھوٹی حجة - حجة بالغة - ماري محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

وَإِذَا سُئِلْتُ عَنِ الذُّنُوبِ أَجَبْتُ أ
نَّ مِنَ الْعُقُوبَةِ عِصْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

۷۲

جد وقت منے گناہو نو سوال تھاسے - تو میں ایم جواب دئیس کہ سزا سی
ماری عصمة - ماری محبة چھے اپ سگلا نا واسطے . (عصمة: حفاظة)

وَإِذَا سُئِلْتُ عَنِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ هَا
عُنْوَانُ أَوَّلِ صَفْحَتِي حُبِّي لَكُمْ

۷۳

جد وقت منے مارا اعمال نا صحیفہ نو سوال تھاسے - تو میں کہیس کہ لو! مارا
صحیفہ نا پہلا صفحہ نو عنوان - ماری محبة چھے اپ سگلا نا واسطے .

وَإِذَا سُئِلْتُ عَنِ الَّذِي نَفْسِي اشْتَهَتْ
لَأَجِبْتُ أَطِيبُ لَذَّتِي حُبِّي لَكُمْ

۷۴

جد وقت منے سوال تھاسے کہ تمارو جان سوں پسند کرے چھے؟ تو میں ایم جواب
دئیس کہ مارا واسطے پاک ما پاک لذتہ - ماری محبة چھے اپ سگلا نا واسطے .

اَیْنَ اِتَّجَاهُکَ اِذْ سِئِلْتُ اَجَبْتُ اُ
نَّ مَحَطَّتِیْ فِی رِحْلَتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

جہ وقت منے سوال تھا سے کہ تمیں کہاں جاؤ چھو؟ تو میں جواب دئیس کہ
ماری سفر فی اخری منزل۔ ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

یَا رَحْمَةَ الْبَارِیِّ عَلٰی عَرَفَاتٍ مَعُ
فِرَّةِ الْخَطَا یَا وَقْفَتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

اے اللہ تعالیٰ فی رحمة! اے ائمة طاهرین! گناہو بخشاوا نا عرفة پر مارو کھڑا
رہوو۔ ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

لِقَبُولِ صَوْمِیْ مَعَ صَلَاتِیْ بِلْ عِبَا
دَاتِیْ جَمِیْعًا فِطْرَتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

مارا روزہ اے ماری نماز بلکہ ماری تمام عبادتو فی قبولیة واسطے زکوٰۃ الفطر
مارا نزدیک۔ ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

وَمَعَ اِحْتِاقِ هِلَالِ شَهْرِ اللهِ ذُو
بِي مَحَقُّوا اِذْ تَوْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۷۸

شہر اللہ - شہر رمضان نا ہلال مٹی جائی - اہنا ساتھ آپ سگلا مارا گناہوں
بھی مٹاوی دیجو، کیم کہ ماری توبہ - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

عِيدِي اِعَادَةَ ذِكْرِكُمْ بِتَرَدِّدٍ
مَاعُدْتُ اَعْلَىٰ مِنْحَتِي حُبِّي لَكُمْ

۷۹

ماری عید آپ سگلا نی وارموار ذکر کروو چھ، جہاں لگ کہ میں ولتو رہوں
وہاں لگ - ماری قیمتی ما قیمتی بخشش جہ منہ بخشوا ما اوی چھ - یہ ماری محبت
چھ آپ سگلا نا واسطے .

بِالتَّهْنِئَاتِ وَرَدَّتْ رَوْضَةَ قَصْرِكُمْ
فِي الْعِيدِ افْوَحُ زَهْرَتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۰

میں تہنئات عرض کرتا ہوا آپ سگلا نا قصر نا کیارا ما ایو چھوں، عید نا دن
مارا واسطے زیادہ ما زیادہ مہکنار پھول - ماری محبت چھ آپ سگلا نا واسطے .

هَلْ لِي كِبَوَابٌ وَقُوفٌ عِنْدَ بَا
بِكُمْ فِقْمَةٌ رُتَبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۱

سوں مارا واسطے یہ شرف چھ کہ میں آپ نا دروازہ پر ایک دربان نی مثل کھڑو
رہوں؟ کیم کہ مارا رُتبه نی بلندی - ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

هَلْ لِي بِسَيْفِكُمُ الْوَحُّ لِلْبِشَا
رَةَ رَفَعْتِي فِي خِدْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۲

سوں مارا واسطے یہ شرف چھ کہ آپ سگلا نی تلوار نا اشاره سی آپ نا ظہور نی بشارة میں مؤمنین
نے دوں؟ آپ سگلا نی خدمة کروا ما ماری بلندی - ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .
(بشیر یعنی بشارة اپنار وہ شخص کہ جر پانی طلب کروا واسطے قافلہ نا آگے جانی ، لے جر وقت پانی ملے تو اھنی بشارة دیتا ہوا تلوار سی
اشارہ کرے)

هَلْ لِمُفْضِلٍ أَنْ يُقَدِّمَ فَادِيًا
صِلَةَ الْعَبِيدِ فَقُرْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۳

سوں مفضل واسطے یہ شرف چھ کہ یہ فداء تھاتا ہوا آپ نا غلامو نی صلة آپ نے عرض کرے؟
پچی جر نا سی میں قُربة حاصل کروں چھوں - یہ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .
(مفضل بن عمرو - مولانا الامام جعفر الصادق ؑ نی حضرۃ ما مؤمنین نو صلة لئی نے آیا - یہ روایۃ نی طرف اشارہ چھ)

هَلْ مِنْ مَوَائِدٍ فَيُضِئُكُمْ لِي حَبَّةٌ
فِي الْفِطْرِ اَهْنَا لِقَمَتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۴

سوں مارا واسطے عید الفطر ما یہ شرف چھ کہ آپ سگلا نا فیض نا موائد ما سی
ایک دانہ منے ملے؟ مارو زیادة ما زیادة برکة و نتو لقمة - ماری محبة چھ آپ سگلا
نا واسطے .

وَمَتَى قِيَامُ الْقَائِمِ الْمُهْدِيِّ مَدُّ
كُمُ بِالظُّهُورِ فَاُهْبِتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۵

وہ دن کیوارے اؤسے کہ جد ما امام الزمان صع - مہدی صع انے قائم صع نی شان ما
ظہور کرے؟ تہ دن واسطے ماری تیاری - ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .
(بعض الائمة صع یہ فرمایو چھ کہ: "كُنَّا مُهْدِيًّا وَكُنَّا قَائِمًا")

وَمَتَى بَطَلَعَتِكُمْ تَمُورٌ نَوَى الْهُدَى
تَزْهُوُ فَمِمَّا نَخْلَتِي حُبِّي لَكُمْ

۸۶

انے کیوارے آپ نا طلعة منيرة سی ہدایة نا کلیاؤ نا کھجور پاکی جاسے؟ پچی
ماری پھل دار کھجوری - ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

وَمَتِي اَفُوْزِيْلَتُمْ اَيْدِيَكُمْ فَعَا
يَةَ مَقْصِدِيْ فِي لَثْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

انے کیوارے میں آپ نا ہاتھ مبارک نے بوسہ دئی نے جیتی جئیس؟ آپ نا ہاتھ
نے بوسہ دیو اما ماری اقصی غرض۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

وَمَتِي مُصَلَّى الْعِيْدِ اَحْضُرْ مَعَكُمْ
فَكَمَالُ نَاقِصِ عِدَّتِي حُبِّي لَكُمْ

انے میں کیوارے آپ نا ساتھ مُصَلَّى الْعِيْدِ۔ عید گاہ ما حاضر تھئیس؟ پچھی
ماری ناقص گنتی نے کامل کرنار۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

وَمَتِي يَعْجَمُ اَلْاَرْضَ طَرَّاعِدْ لَكُمْ
يَقْضِي فَحْلُ قَضِيَّتِي حُبِّي لَكُمْ

انے وہ دن کیوارے اؤسے کہ جہ دن ما آپ تمام زمین نے عدل سی بھری نے حق نو
فیصلہ کرسو؟ پچھی مارا قضیة نو حل۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے۔

شَمْسُ الْاِمَامَةِ اَطْلَعُوا مِنْ مَغْرِبِ
عَجَلًا مَجَلِّي غُرْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۰

آپ سگلا امامة نا سورج نے - مغرب سي شتاب طلوع ڪريئ، ماري غربة
(پرديس ني حالة) نے دور ڪرنار - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطه .

عَدَلًا اَقِمُوا الْاَمْنَ فِي كُلِّ لِبْلَا
دِلْدَى الْمَخَافِ وَمَنْعَتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۱

آپ سگلا عدل ڪري نے تمام بلاد ما امان قائم ڪريئ، هر خوف نا نزديك
ماري حفاظة ڪرنار قلعة - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطه .

فَعَلَيْكُمْ مِّنِي السَّلَامُ بِضَوْئِهِ
لِبِّي يُضِيءُ فَشَمَعَتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۲

پچھي آپ سگلا پر مارو سلام چھ، يه سلام ني روشني سي ماري عقل روشن
تھائي چھ، پچھي مارا واسطه ڊيوو - ماري محبة چھ آپ سگلا نا واسطه .

وَعَلَيْكُمْ مِّنِي السَّلَامُ بِطَيْبِهِ
رُوحِي يَفُوحُ فَتَفْحَتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۳
اپ سگلا پر مارو سلام چھ ، اھني خوشبو سي مارو جان مھڪي جائي چھ ،
پھي ماري مھڪ - ماري محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

وَعَلَيْكُمْ مِّنِي السَّلَامُ بِأَيْدِيهِ
جِسْمِي يَقُومُ فَهَيْتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۴
اپ سگلا پر مارو سلام چھ ، اھني قوت سي مارو جسم اعتدال پر چھ ، پھي
ماری قوت - ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

أَدْعُوكُمْ أَرْجُوكُمْ أَنْحُوكُمْ
حُبًّا مَّتَمُّ رَغْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۵
میں اپ سگلا نی محبة ما اپ سگلا نے دعاء کروں چھوں ، اپ سگلا نی امید
کروں چھوں ، اپ سگلا نی طرف قصد کروں چھوں ، ماری امید نے تمام کرنار -
ماری محبة چھ اپ سگلا نا واسطے .

وَمَمْنِيَّاتِ الْقَلْبِ اَعْرَضُهَا بِحَضْرَتِكُمْ
فَاَبْلَغُ رُقْعَتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۶

مارا دل ني امیدو نے ميں اپ سگلا ني حضرة ما عرض کروں چھوں، پچھي مارا
نزدیک وہ عرض جد اپ ني حضرة ما پہنچي جا ئي چھے - يہ ماري محبة چھے اپ
سگلا نا واسطے .

وَعَلَىٰ عُبَيْدِكُمُ الْفَقِيرُ تَفَضَّلُوا
بِاللُّطْفِ وَفَرُشْرُوْتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۷

اپ سگلا نا فقير ادنی غلام پر اپ سگلا لطف کري نے احسان کريئے،
ماری زیادہ ما زیادہ دولت - ماری محبة چھے اپ سگلا نا واسطے .

وَلَقَدْ خُلِقْتُ بِاِحْسَنِ التَّقْوِيمِ اِذْ
بِالْفَضْلِ سَوِي خُلِقْتِي حُبِّي لَكُمْ

۹۸

تحقیقاً ميں احسن التقويم - سيدها قامة ما پيدا تھيو چھوں، کيم کہ فضل کري نے
ماری صورۃ نے سيدهي کو ئي کيدي؟ کہ اپ سگلا نا واسطے ماری محبة يہ .
(الله سبحانه قرآن مجيد ما فرماوے چھے کہ: "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ" لے "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ")

المُخْلِصُونَ وَاَوْلَاءَكُمْ هُمْ اَقْرَبًا
فِي حَيْثُ نِسْبَةٍ اُسْرَتِي حُبِّي لَكُمْ

جہ سگلا آپ سگلا نی خالص محبة کرے چھ یہ سگلا ماری قرابة نا لوگو چھ، کیم کہ ماری أسرة (family) ساتھ مارو رشتہ سہ نا سبب چھ کہ۔ آپ سگلا نا واسطے ماری محبة نا سبب .

لُطْفًا بِاهْلِ وِدَادِكُمْ عَطْفًا بِهِمْ
كِرْمًا فَجَامِعُ فِرْقَتِي حُبِّي لَكُمْ

آپ سگلا نی محبة کرنا راؤ پر آپ سگلا لطف، احسان انے کرم کریئے، پچھی ماری قوم نے جمع کرنا۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا اَرْحَمُوهُمْ نَظْرَةً
فِي العَيْشِ رَافِعُ قِسْمَتِي حُبِّي لَكُمْ

ایک نظر کری نے دین انے دنیا ما آپ سگلا مؤمنین نے رحمة کری دیئے، پچھی ماری زندگی ما ماری قسمة نے بلند کرنا۔ ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

اَسْعَى لَجْمَعِهِمْ عَلٰى ذِكْرِ الْحُسَيْنِ
بِنِ وَفِيْهِ اَنْفَعُ خُطْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۰۲

میں یہ سگلا نے مولانا الامام الحسين صع نی ذکر پر جمع کروا نی کوشش کروں
چھوں، انہا مارا واسطے زیادہ ما زیادہ نفع کرنا ر تخطيط (plan) - ماری محبة
چھ آپ سگلا نا واسطے .

وَحُذُوا الْعُدَاةَ الْمُفْسِدِ بِنِ بِأَخْذَةِ الْ
قَهَّارِ أَقْرَهُ هَيْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۰۳

آپ سگلا فساد کرنا ر دشمنو نے قہار - خدا نا پکڑوا نی مثل پکڑیے ، دشمنو نے
زیادہ ما زیادہ قہر کرنا ر ہیبة مارا نزدیک - ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

الْفَتْحُ فَتَحَكُمْ الْمُبِينُ بِكَلِمَةٍ
رَكَّةٍ مَعَلِيَّ هَيْبَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۰۴

آپ سگلا نی فتح مبین ح حقیقة ما فتح چھ ، هر معركة ما ماری همة نے بلند
کرنا ر - ماری محبة چھ آپ سگلا نا واسطے .

بِکُمْ فَتُوْحَاتُ الْعُلُوْمُ تَحَقَّقَتْ
فَمُبِیْنُ عِلْمٍ مَّحَبَّتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

۱۰۵
اُپ سگلا نا سبب علم نی فتوحات ثابت تھائی چھ، پچی ماری محبة نا علم
نے واضح کرنار۔ ماری محبة چھ اُپ سگلا نا واسطے .

کَسْرِیْ جَبْرًا غَلَبِیْ افْتَحُوا فَرَسِیْ اَنْصُرُوا
فَکَسَابِیْقِ فِیْ ضَمَّتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

۱۰۶
مارا کسر۔ ماری پھاٹ نے اُپ سگلا جوڑی دئیے، مارا بندھن نے اُپ سگلا فتح کریئے۔ کھولی دئیے،
مارا گھوڑا نے اُپ سگلا یاری دئیے، race نا میدان ما مارا واسطے سگلا کرتا تیز دوڑنار گھوڑا۔ ماری
محبة چھ اُپ سگلا نا واسطے . (ابیت ما اعراب نی علامتو: کسر (زیر)، فُتْح (زیر) لَظْمَة (پیش)۔ نا الفاظ استعمال تھیا چھ)

وَاَعْدَمَنْ صَلَّى عَلَیْکُمْ مُؤْمِنًا
اِذْ قَبِلْتِیْ بَلْ کَعْبَتِیْ حُبِّیْ لَکُمْ

۱۰۷
جہ شخص اُپ سگلا نا اوپر صلوات پڑھے چھ۔ اھنے میں مؤمن گنوں چھوں،
کیم کہ مارا قبلتہ بلکہ مارا کعبہ۔ ماری محبة چھ اُپ سگلا نا واسطے .

وَتَقَبَّلُوا قَصْدًا لِقَصِيدٍ وَاِنَّهٗ
لَا رَيْبَ اَدْوَمُ قَوْلَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۰۸

مارا قصیدہ نی غرض نے آپ قبول کریئے، بے شک یہ غرض سوں چھے؟ کہ
میں ہمیشہ ایم کہتورہوں۔ کہ ماری محبة چھے آپ سگلا نا واسطے .

وَعَلَيْكُمْ دَا بًا اُصَلِّي حَامِدًا
فِي الشُّكْرِ اَطْوَلَ سَجْدَتِي حُبِّي لَكُمْ

۱۰۹

حمد کرتا ہوا میں ہمیشہ آپ سگلا پر صلوات پڑھوں چھوں، شکر ما
مارو دراز ما دراز سجدة۔ ماری محبة چھے آپ سگلا نا واسطے .

”حُبِّي لَكُمْ حَسَنَاتُهُ عَشْرُ عَقِيدٍ
بِ مِئِينَ مَكْمَلِ جُمَّلَتِي حُبِّي لَكُمْ“

۱۱۰

”حُبِّي لَكُمْ“ کلمة نی حسنات ایکسو دس چھے، مارا جملة نے کامل کرنار۔ ماری
محبة چھے آپ سگلا نا واسطے .

(”حُبِّي لَكُمْ“ نا عدد ایکسو دس چھے، لطف یہ چھے اقصیدہ ما ایکسو دس ایبات چھے)